

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾

... **ALLAHU I DO
DURIMTARËT.**

KURAN, 3:146